



سوال

(757) عورت کے لیے حصول علم اور گھریلو کام کاج میں سے کیا افضل ہے؟

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

مسلمان عورت کا اپنے گھر اور خاوند کی خدمت کرنا بہتر ہے یا گھر کے کاموں کے لیے کسی نوکرانی کا اہتمام کرنا اور طلب علم کے لیے فارغ ہونا بہتر ہے؟ ہمیں فائدہ پہنچاؤ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

ہاں ایک مسلمان کا فریضہ ہے کہ وہ جس قدر طاقت رکھ سکے ویسے ہی دین میں سمجھ حاصل کرے لیکن اپنے خاوند کی خدمت اس کی فرما نہ داری اور اپنی اولاد کی تربیت بہت بڑا فریضہ ہے لہذا تعلیم کے لیے روزانہ نشست کے لیے اگرچہ وہ تھوڑی ہی ہو خود کو فارغ کرے یا ہر روز پڑھائی کے لیے کچھ وقت خاص کرے اور بقیہ وقت روزمرہ کاموں کے لیے استعمال کرے لہذا اسے دین میں تفریح حاصل کرنے کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے اور نہ ہی اپنے اعمال اور بچوں کو چھوڑنا چاہیے کہ وہ انہیں نوکرانی کے سپرد کر دے۔

اس معاملے میں اعتدال ہونا چاہیے تفریح حاصل کرنے کے لیے بھی کچھ وقت ہونا چاہیے اگرچہ وہ تھوڑا ہی ہو اور ضرورت کے مطابق کچھ وقت گھریلو کاموں کے لیے بھی ہونا چاہیے (فضیلیہ الشیخ صالح الفوزان)

هذا ما عندي والله اعلم بالصواب

عورتوں کے لیے صرف

صفحہ نمبر 669

محدث فتویٰ